



سوال

(413) نوکرانی کا صدقہ فطر دینا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ہمارے ہاں گھر میں ایک نوکرانی ہے، کیا اس کے ذمے ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

گھر میں کام کرنے والی خادمہ کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر دے، کیونکہ وہ مسلمانوں میں سے ہے، لیکن کیا اس کا یہ صدقہ خود اس کے ذمے ہے یا اس کے گھر والوں کے ذمے، جن کے ہاں وہ کام کرتی ہے تو اصل یہ ہے کہ یہ صدقہ خود اس کے لپنے ذمے ہے، لیکن اگر گھر والے اس کی طرف سے ادا کر دیں تو کوئی حرج نہیں۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 338

محدث فتویٰ